



## سوال

(128) فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

فرض نماز کے بعد امام صاحب کا دعا کروانا کیسا ہے اور اگر کوئی دعا کروانے کلکے تو اس کا کیا حکم ہے۔؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے ثبوت میں کوئی مقبول حدیث نہیں ہے، نہایت تعجب کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دس (۱۰) سال رہے، پانچوں وقت نمازیں پڑھائی، صحابہ کرم کی کثیر تعداد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، مگر ان میں سے کوئی بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہ کرے تو یہ اس کے بطلان کی واضح دلیل ہے!

مولانا عبدالرحمان مبارکپوری کہتے ہیں کہ اگر کوئی انفرادی طور پر نماز کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کر مانگ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں!

سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تمہارا رب براہی کرنے والا اور سخی ہے، جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے" (ابن ماجہ: الدعاباب: رفع الیدین فی الدعاء: ۳۸۶۵)

امام ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر رحمہم اللہ اور بہت سے علماء نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا انکار کیا ہے اور اسے بدعت کہا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہونگے جو پانی کے استعمال میں اور دعا کرنے میں حد سے تجاوز کریں گے" (البوداؤد، الوتر، باب الدعاء، حدیث ۹۶، ۱۴۸۰، ابن ماجہ، الدعاء: ۳۸۶۴، اسے حکیم اور امام ذہبی نے صحیح کہا ہے)

اجتماعی دعا کی دلیل میں بیان کی جانے والی تمام روایت ضعیف ہیں، تفصیل حسب ذیل ہے؛

۱- سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ "جو بندہ ہر نماز کے بعد اپنے دو ہاتھ پھیلا کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو نامراد نہیں لوٹاتا"۔ (ابن السنی)

.. اسکی سند میں



(الف) اسحاق بن خالد ہے جو منکر احادیث روایت کرتا ہے۔

(ب) امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ (اسکا ایک اور راوی) عبدالعزیز بن خصیف کا سینا انس سے سننا معلوم نہیں

(ج) علاوہ ازیں اس روایت میں اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے۔

(۲) سینا زید بن اسود عامری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کا سلام پھیرا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی" (فتاویٰ زیریہ)

اس حدیث کی سند حسن ہے مگر مولانا عبید اللہ رحمانی لکھتے ہیں :

"کتب احادیث کے اندر اس حدیث میں (ورنچ ید یہ فدعا) دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ کے الفاظ نہیں ہیں ، علاوہ ازیں اس میں بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے "

امام شاطبی کتاب الاعتصام ۱/۲۵۲ میں بدعات اضافیہ سے مفصل بحث کے نتیجے میں ایک جگہ راقم ہیں۔ امثلۃ هذا الاصل التزام الدعاء بعد الصلوات بالجماعة الاجتماع مقصود اس سے یہ ہے کہ اس چیز اصل میں صحیح اور ناجائز ہوتی ہے مگر تخصیص کی وجہ سے بدعت ہو جاتی ہے نماز کے بعد اجتماعی صورت میں دعا کو ضروری سمجھنا اور پابندی کرنا اسی قسم سے ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر لکھتے ہیں :

"اجتماعی شکل میں دعا مانگنے اور ذکر کرنے میں جس کیلئے اہل بدعت جمع ہو کر مانگتے ہیں سلف صالحین سے منع وارد ہے۔" البتہ اگر کوئی شخص دعا کیلئے اپیل کرے تو پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جاسکتی ہے۔ (تحفہ الاحوذی)

حداماعندی واللہ اعلم بالصواب

## فتاویٰ بن بازر رحمہ اللہ

جلد دوم